



# **DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SAHIWAL** **(CHICHAWATNI CAMPUS)**



## **SUMMER VACATION TASK 2025**

**Class: III**

**Name:** \_\_\_\_\_

**I.D** \_\_\_\_\_

**Class:** \_\_\_\_\_

**Section:** \_\_\_\_\_

**Note:** Prep to class VIII students will write their summer task in separate registers. All parents are directed to supervise their kids while doing summer task. All work should be written in neat and clean way properly. Summer task written by parents or tutors will not be accepted. Student's name, class and subject should be mentioned on registers. Registers should be laminated properly.

### **ENGLISH**

**Q1. Read the following unseen passages mindfully and answer the questions given below.**

①

The smile is the best tonic for our mind and body. It takes thirteen muscles to smile, but forty-three to be angry. So, it is easier to smile and difficult to be angry. To be cheerful, we have to create positive thoughts. On the other hand, if we constantly think about negative things, we feel unhappy. So, the best way to avoid a negative idea is to replace it with a positive one. When we are relaxed in bed, we should practise putting some cheerful thoughts.

1. What is the best tonic for our mind and body?
2. What should we do to be cheerful?
3. What is the best way to replace a negative idea?
4. What should we practise when we are relaxed in bed?
5. What happens when we constantly think about negative things?

②

Once a cunning jackal jumped into a big tub of blue dye. "I am your king," he said. All the animals, big and small, believed him and bowed before him. The clever jackal smiled. Now he was the most powerful animal in the forest. He was proud to be a king.

Once, the jackal woke up in the middle of the night. The jackals in the forest were howling at the full moon in the sky. The blue jackal forgot he was a king. He, too, began to howl. "Hu...aah! Hu...aah!" he cried. The animals ran out to see. "He is not a king. He is just a jackal!" they shouted. They rushed to attack him. "Stop, stop! I am sorry I tricked you. Please do not kill me!" said the blue jackal. The animals forgave him, but only after giving the jackal a good beating.

1. Who jumped into a big tub of blue dye?
2. Why did the animals think that the jackal was a king?
3. How did the jackal become blue?
4. What did the animals do when they saw the blue jackal?
5. How did the animals know that the king was just a jackal?
6. Write the name of any colour mentioned in this passage.
7. What does this story teach us?

**Q.2:** Pick out **nouns** from unit 2.

**Q.3:** Pick out **adjectives** from unit # 3 The Wooden Bowl.

**Q.4:** Write a short paragraph on the following topics:

- (i). My daily School Routine
- (ii). How do I spend my Lunch Break.
- (iii). How Do I get ready for School.

**Q.5:** Do these fun activities.

- (i). Make a greeting card and paste it in your summer task.
- (ii). Draw a flower and write about its name, size and colour.

**Q.6:** Improve your reading, dictation and vocabulary. Read the units mentioned below and find out the meanings of difficult words using your dictionary and note them in your book as well as write ten words/ meanings from each unit in your summer task registers.

**Unit#1** (Dignity of Labour)

**Unit#4** (Abdul Sattar Edhi),

**Poem** (My Playmate)

**Unit#9** (Flower Festival)

**Unit#10** (The Story of Silk)

**Q.7:** Learn all the written work in your copies, books and workbooks.

**SUMMER TASK****MATHEMATICS****CLASS:III**

Q - 1: Write the name in words:

- (i) 4630 (ii) 5072 (iii) 86052 (iv) 3800 (v) 17438

Q - 2: Write Roman numbers 1 to 50?

Q - 3: Arrange the given number in ascending and descending order:

- (i) 5301, 6084, 8564, 5213, 0719, 5412

- (ii) 2232, 2418, 1110, 2023, 2248, 2481

- (iii) 8415, 6244, 9530, 6428, 5904, 7490

- (iv) 1644, 3795, 1346, 1393, 1934, 3978

- (v) 4317, 9060, 6234, 8494, 8715, 5736

Q - 4: Add the given numbers:

- (i)  $1124 + 339$  (ii)  $3336 + 22206$  (iii)  $41213 + 2455$  (iv)  $17395 + 1149$

- (v)  $1045 + 16115$

Q.5: Subtract the given number:

- (i)  $4783 - 1949$  (ii)  $3422 - 1155$  (iii)  $7426 - 6539$  (iv)  $3530 - 1252$

- (v)  $2443 - 1217$

.6: Round off to the nearest 10:

- (i) 546 (ii) 385 (iii) 498 (iv) 807 (v) 907

Q.7: Write numbers in expanded form:

- (i) 12546 (ii) 32485 (iii) 42198 (iv) 8017 (v) 91307

Q.8: Learn and write tables 2 to 10 (2 times).


Q.9: Learn and write the given definitions:

- (i). Even Number (ii). Odd Number (iii). Ascending Order  
(iv). Descending Order (v). Place value (vi). Rounding up  
(vii). Rounding down

**Activity**

Q # 10). Find the pairs of numbers in the outer circle that add up to make the numbers in the inner circle:

a)	712	+	358	=	1070
b)		+		=	
c)		x		=	
d)		-		=	
e)		x		=	



Q.1: **Thumb printing** ( body posture )

**Material :**Poster colours , brush , paper

**Step :**

1 : Put your thumb impressiob in doted ovals .

2: Wait till it dries out .

3: Draw faces on them with black pencil .

Q. 2: Draw and colour a pizza slice .

Q. 3 : Draw a doodling design and colour it with markers . Pencil colour can also apply .

Q. 4 : Making textures

**Material :**Coins , pencils colours

**Method :** 1 . Put coin under the paper , Rub the pencil over it . Its texture will appear on top side of paper .

Make 5 textures on one page in different colours .

**NOTE :** Do all your task on sketch book (New )

جماعت سوم

واقفیت عامہ (جی۔ کے)

Q.1: Define matter ?write its three states?

Q.2: Draw map of Pakistan and label the countries?

Q.3: Draw life cycle of frog on chart and label it?

Q.4: توحید کے تقاضے بیان کریں؟

Q.5: کلمہ طیبہ اور سورۃ اخلاص کی تعلیمات بیان کریں۔

### ناظرہ

سوال نمبر 1۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا اور واپس آنے کی دعا مع ترجمہ یاد کریں۔

سوال نمبر 2۔ نیا لباس پہننے کی دعا مع ترجمہ یاد کریں۔

سوال نمبر 3۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا مع ترجمہ یاد کریں۔

سوال نمبر 4۔ سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ، سورۃ الناس، سورۃ فلق، سورۃ کافرون، سورۃ فیل، سورۃ لہب، سورۃ نصر، سورۃ تکوین یاد کریں۔

سوال نمبر 5۔ پارہ نمبر 4 لن تنالو البرّ یاد کریں۔

سوال نمبر 1: دیے ہوئے پیرا گراف پڑھیں اور سوالوں کے جواب لکھیں۔

①

احمد ہر سال سکول میں کھیلوں کے مقابلے میں اول آتا ہے۔ اس سال بھی اسے امید تھی کہ وہی یہ مقابلہ جیتے گا۔ دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا۔ احمد ہمیشہ کی طرح سب سے آگے تھا۔ دوڑ ختم ہونے والی تھی کہ اچانک رضاتیز دوڑتا ہوا اس سے آگے نکل گیا اور یہ مقابلہ جیت گیا۔ احمد دوسری پوزیشن پر آنے کی وجہ سے اداس تھا۔ استاد صاحب نے اسے اداس دیکھا تو اسے سمجھایا کہ آپ نے اچھی کوشش کی۔ اس لیے اداس مت ہوں۔ ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ احمد کو یہ بات سمجھ آگئی۔ اس نے استاد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر جا کر رضا کو جیتنے پر مبارک باد دی۔

1- احمد کس مقابلے میں اول آتا تھا؟ 2- مقابلہ کس نے جیتا؟ 3- احمد کیوں اداس تھا؟

②

حضرت ابو بکر صدیقؓ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کے گہرے دوست تھے۔ آپؓ بہت مال دار تھے۔ آپؓ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے۔ آپؓ لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ آپؓ کو پیارے نبی ﷺ سے بہت محبت تھی۔ آپؓ نے ہر موقع پر رسول اکرم ﷺ کا ساتھ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہؓ آپؓ کی بیٹی تھیں۔ آپؓ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔

1- حضرت محمد ﷺ کے دوست کون تھے؟ 2- مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟

3- حضرت عائشہؓ کا حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کیا رشتہ تھا؟

سوال نمبر 2- درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔

تاریک، آقا، دوست، سیاہ، جزا، جھوٹا، دشوار، اجالا، امن، دن، دھوپ، انسان، بہادر، اوپر، بہار، بنجر، خوش، استاد، گورا، خالق، سچ، ہار،

سوال نمبر 3- درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔

گل، فلک، نیک، تاریکی، دشوار، حسین، فائدہ، روشنی، وسیع، شرمندہ، شب، تن درست، شہرت، گلستان، داغ، دوست، سبب، طاقت، غرور، صاف

سوال نمبر 4- مذکر کے مونث لکھیں۔

نیل، بندر، شیر، ہاتھی، چڑا، ابا، چچا، بھائی، ماموں، تایا، پھوپھا، نانا، دادا، باپ، استاد، شاگرد، لڑکا، بادشاہ، آدمی، بکرا، خالو۔

سوال نمبر 5- واحد کے جمع لکھیں۔

کہانی، تتلی، گاڑی، ندی، انگوٹھی، درخت، وظیفہ، بچہ، منزل، تھیلا، تارا، پتہ، لڑکا، جھنڈا، پیالا، طوطا، تحفہ، میوہ، پودا، دروازہ، انڈا۔

سوال نمبر 6- 1-30 تک لفظی گنتی لکھیں۔

سوال نمبر 7- ماں باپ کے بارے میں 10 جملے لکھیں۔

سوال نمبر 8- اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کریں۔

لڑکا، علی، پہاڑ، شہر، گاڑی، ملتان، ڈی پی ایس، اردو کی کتاب، قرآن، میز، کرسی، مینار پاکستان۔